

Askari Better Life Khushhal Kal Plan

Elevate Your Financial Status

Our High Allocation Universal Life plan is designed for individuals who are driven to succeed. With a minimum premium of PKR 50,000, this plan offers a powerful combination of protection and savings that can help you achieve your financial goals. When you're no longer around, your loved ones may struggle to make ends meet, which is why our plan provides a financial security to ensure they're taken care of. We'll help you replace your income, pay off debts, and cover final expenses, so your family can focus on healing and moving forward.

Protection and Savings Combined

The High Allocation Universal Life plan features a robust protection cover that safeguards your financial well-being, giving you peace of mind and confidence to pursue your goals. With this plan, you'll be able to invest in your dreams and aspirations, knowing that your financial future is secure. Whether you're saving for your children's education or planning for retirement, our plan provides the protection and security you need to achieve your goals, helping you create a brighter future for yourself and your loved ones.

Jee Lo Har Ghari

By investing in our High Allocation Universal Life plan, you'll be able to create a brighter future for yourself, your family and loved ones. With a secure financial foundation, you'll be free to pursue your passions and interests without worrying about the financial implications of unexpected events. Our plan is designed to help you achieve your goals and live the life you've always wanted.

Key Features

Complete Package

As we go through each stage in life, our financial responsibilities change. Our perspective on life and savings changes with time. Recognizing your evolving financial needs, Askari Life has designed the Khushhal Kal Plan which not only provides long-term protection from unforeseen circumstances but also brings prosperity into your life. Whether you are at the beginning of your career, have just started a family, require funds for your child's education or marriage or would like to plan for your retirement, all possibilities are ensured under the Khushhal Kal Plan.

Strengthen your Child's Future

When a child is born, a dream is born. We being a parent would want to shape that dream and bring it to reality in the best possible way. Either it's the question of providing top-quality education or making best arrangement for their marriage, we always want the best for our child. Khushhal Kal Plan helps you in achieving all those dreams with ease, as this plan offers one of the most effective way to keep your child's future secured along-with the peace of mind through various exclusive benefits and coverage enhancement options that can be tailored as per your child's future financial needs.

Annuity Benefit

Through this option, you will be given the option to get your maturity value on a monthly basis up to the years you have selected. Maturity value will continue to grow through Investments in your Investment Account till the last month of your selected tenure to receive the monthly Annuity benefit.

Customized Plan

With Khushhal Kal Plan, you can design the future you want for yourself! It provides you the flexibility to personalize your plan according to your own goals and family's unique lifestyle. There are many flexible options the plan provides, such as altering your investment and protection level. In addition to flexibility, you can also opt from various optional add-ons with the help of our certified financial advisor, that will add more benefit to your policy.

Additional Investment Option (Top-up)

This feature provides additional flexibility to your existing plan. If you have any additional funds available at any stage you can place them as investment under Khushhal Kal Plan during the course of the policy term that will further enhance your cash value. Many people use this option to make yearly premium payment by placing additional investment as top-up with their policy.

Cover Multiple (Life Insurance Protection)

A sudden departure of a bread-earner can make many lives difficult. In that case financial security for your family is of utmost priority. With Khushhal Kal Plan you can ensure desired financial security for your family. You can fix a significant lump sum amount as much as you anticipate would be enough to fulfill their future financial needs which could be set as high as 400 times of the premium amount.

Emergency Monetary Access

What do you do when you have an urgent requirement of cash? You either borrow it from some one or sell your valuables. To save you from all those hassles and to satisfy your urgent cash requirement, Khushhal Kal Plan offers a valuable loan facility and easy access to cash (of up-to 50% of your account value).

Inflation Protection

It's an unfortunate fact that the money we have is worth a little less every day. As rising inflation erodes all our savings bit by bit, we need a plan to keep our savings intact. Khushhal Kal Plan offers this unique feature dedicated to combat inflation with upto 20% increment in the premium every year.

Free Look Period

Khushhal Kal Plan is a long-time commitment towards your goal to provide desired financial security and prosperity to yourself and your loved ones. However, in case you realize that you are not satisfied with the product offering, you need not to worry, as Askari Life offers a free look period where you can cancel the policy within 14 days of receipt of policy documents and get 100% refund.

Policy Terms and Eligibility

Min Entry Age	Max Entry Age	Min Policy Term
18 Years (Age Nearest Birthday)	60 Years (Age Nearest Birthday)	5 Years
Min Paying Term	Max Paying Term	Max Policy Term
5 Years	Equal to Policy Term	Up to age 70

Basic Premium Allocation

As you continue the policy towards its full term, your Account Value will be credited with a proportion of Basic Premiums that you pay. The proportions allocated to your Account Value will be as follows:

Policy Year	% of Basic Premium Allocated to Account Value	Surrender Charges as % of Account Value
1	60%	100%
2	90%	75%
3 and above	100%	Nil

Advance & Continuation Bonus

Unlock a brighter financial future with our **Exclusive Advance Bonus** feature. Receive our advance bonus before completion of the 1st year & allocated to you in the fifth year as a testament to your dedication.

Stay committed for 5+ years and earn more attractive loyalty bonuses in the future years.

Policy Year	% of Initial Basic Premium Allocated to Account Value
1	20%
7	30%
10	100%
15	150%
20	200%

Charges

Policy Fee

The monthly policy fee is PKR 200/- only, which will increase by 10% annually.

Investment Management Charges

1.75% of the account value to be deducted annually.

Insurance Cost

With reference to attained age and based on the mortality table.

Premium Expense

5% expense will be deducted from each premium.

Optional Benefits

Apart from standard applicable benefits such as protection and investment, Khushhal Kal Plan also offers you additional benefits, and the liberty to choose from various optional insurance benefits, based on your goals and financial capabilities.



School Fee Waiver

It's every parent's dream to see their child educated and successful in life, but sometimes life has other plans. Wouldn't it be great to know that your child's education will always be uninterrupted even in case of any misfortune? With this exclusive School Fee Waiver benefit, Khushhal Kal Plan will ensure your child's education in your absence by covering the school fee of your child. It also provides you the flexibility to choose the cover term as per your need (maximum up-to 10 years).



Financial Support against Major Surgery

Imagine having to worry about your finances in case of under-going a surgery. Such a calamity can create a havoc in your family. Thus, financial readiness for such situations is equally important.

Khushhal Kal Plan offers this exclusive benefit that provides you with an upfront financial support in case you get diagnosed with a chronic disease, so you can manage your hospital bills and expenses without any obstacles.

This benefit is specifically designed to offer living benefits to our customers as depicted in our Brand's mantra of **"Jee Lo Har Ghari"** so you and your loved ones continue living your life & enjoying every moment to the fullest!



Hospital's Stay Expense Covered for up to 60 days in case of Accident

Leading a healthy lifestyle in the modern high-stress routines is challenging. Medical emergencies can arise without any intimation. At such times, treatment costs can put a huge financial burden on families. Sometimes, such huge payments can cause imbalances in your family finances.

To ensure that you are well-protected against unforeseen medical expenses, the Khushhal Kal Plan offers a unique benefit of hospitalization coverage (applicable only for accidental hospitalization). This benefit provides coverage in case of hospitalization exceeding one day due to an accident.



Critical Illness Benefit

Everyone looks for medical coverage for the unexpected emergencies and medical help. This is especially important today, when medical care is quite costly and unplanned. A critical illness can put the entire family in huge financial debt and crisis. To combat with all those adverse circumstances, Khushhal Kal Plan offers critical illness rider that provides coverage against major life threatening diseases (mentioned in the policy details). In case you are diagnosed with any of the mentioned illnesses, a lump sum amount is paid. This lump sum amount is in addition to the main plan benefit.



Monthly Income Benefit

Throughout our life, we try to provide comfort, happiness and protect our loved ones emotionally and financially. But there are times when you ask yourself, what if I am not around to take care of my family? Have I secured my loved ones financially? Can I plan for the financial security of my family while meeting my current goals?

Askari Life is proud to introduce one of the most unique benefits that will protect you and your family from financial uncertainties even in case of an unfortunate event that results in death or disability by providing them regular monthly income to manage their monthly expenses with ease.



Waiver of Premium (Disability)

We all work towards the well-being of our family to safeguard their present and ensure their future is financially secure. Be it your child's higher education, planning a family holiday or a secure retirement, we want to provide the best to our loved ones. Even in case of any eventuality, you prepare for the future to ensure your family maintains the same living standards and has a financially secure future. But what if you are unable to earn and pay your premiums because of unexpected events that may result in disability? With this exclusive add-on, we bring to you Premium Waiver Rider, which allows you to get your insurance policy benefits even if you're unable to pay your future premiums.



Waiver of Premium (Death)

If you are seeking maximum protection for your family and want your policy to be active even if you are not there to support them; this benefit is for you! With this add-on, your family will not just receive the guaranteed lump-sum amount (Sum Assured) against the coverage you fixed initially to cover up the sudden financial burden, but will also receive the significant amount as maturity benefit at the end of the policy term.



Accidental Death & Disability Rider

In the journey of life, you always walk an extra mile to provide better future to your family. However, this journey of life is full of uncertainties; you never know how the future will unveil. In today's scenarios, with the increase in the

number of instances of accidents, it is imperative to shield your family's future. As a responsible individual you would like to safeguard your family's future against such eventuality. Askari Life's Accidental death and disability rider, offers an additional financial security to your family in the event of an accident that may result in death or disability.



Level Term Benefit (Additional Coverage Option)

We all aim to ensure that our family is protected and financially secure, both now and in the future. And we do so by financially preparing for all circumstances. But what if we foresee expenses rising and want to suitably increase the protection level (Sum Assured)? Furthermore, with changing life stages, insurance needs might change too. For instance, after getting married, becoming a parent or after your parents retire.

This add-on is specifically designed to ensure that the rising expenses of your family are taken care of. If you opt the life insurance policy along with this add-on, your nominated family member will not only get the sum assured or cash value but an additional amount benefit attached due to this new Term Assurance Benefit by paying a nominal fee along with your policy.

Disclaimer

- Khushhal Kal Plan is a Universal Life Plan which is subject to investment risk and the cash value of the plan will vary directly with the performance of the investment fund
- Bank is acting as a corporate sales agent on behalf of Askari Life, and is not responsible in any manner, whatsoever, to the customer, his/her beneficiary/ies or any third party.
- Askari Life shall be the sole responsible with respect to policyholder services, claim lodgements and claim processing.
- All Khushhal Kal Plan applications are processed and approved by Askari Life, as per their underwriting guidelines. Bank is not responsible for the processing and approval of these applications in any way, whatsoever.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our sales representative. Please refer to the notes in the illustration for a detailed understanding of the various Terms and Conditions.
- This brochure only provides an introduction to the benefits available under the policy. A detailed description of how the contract works is given in the 'Terms and Conditions', which will be provided after the customer avails the service.

Askari Life Assurance Co. Ltd.

Emerald Tower, Office No. 1104, 11th Floor, Plot G-19, Block 5,
KDA Improvement Scheme No. 5, Clifton, Karachi.
Tel: 021 36269941-44 | Fax: 021 3514 7540
UAN: 021-111-225-275 | Email: info@askarilife.com

www.askarilife.com



askarilife
Jee Lo **Har Ghari**

Askari Better Life KHUSHHAL KAL Plan

Iraada karo behtar mustaqbil ka!



021-111-225-275



www.askarilife.com

عسکری بیئر لائف – خوشحال کل پلان

اپنی مالی حیثیت بڑھائیے

ہمارا ہائی ایلویشن یونیورسل لائف پلان ان افراد کے تشکیل دیا گیا ہے جو کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ کم سے کم پچاس ہزار روپے کے پرمیئم سے یہ منفرد پلان تحفظ اور بچتوں کا ایک مضبوط مرکب پیش کرتا ہے جو آپ کو اپنے مالی اہداف حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کے پیاروں کو گزارہ کرنے کے لئے جدوجہد کرنا پڑسکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا پلان ایک مالی تحفظ فراہم کرتا ہے یہ یقینی بنانے کے لئے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھا جائے۔ ہم آپ کی آمدنی کو تبدیل کرنے میں مقررہ جات ادا کرنے اور حتمی اخراجات پورا کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اہل خانہ خود کو بحال کرنے اور آگے بڑھنے پر توجہ مرکوز کرھکیں۔

تحفظ اور بچت ایک ساتھ

ہائی ایلویشن یونیورسل لائف پلان ایک مضبوط تحفظ پیش کرتا ہے جو آپ کی مالی بہتری کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لئے وقتی سکون اور اعتماد دیتا ہے۔ اس پلان سے آپ اپنے خوابوں اور خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہوں گے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا مالی مستقبل محفوظ ہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے بچت کرنا چاہتے ہوں یا ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، ہمارا پلان آپ کو وہ تحفظ اور حفاظت فراہم کرتا ہے جن کی آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لئے ضرورت ہو اور آپ کو اپنے اور اپنے پیاروں کے لئے ایک روشن مستقبل بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔

بہی و ہر گھڑی

ہمارے ہائی ایلویشن یونیورسل لائف پلان میں سرمایہ کاری کر کے آپ اپنے، اپنے خاندان اور پیاروں کے لئے ایک روشن تر مستقبل بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک محفوظ مالیاتی بنیاد کے ساتھ، آپ اپنی خواہشات اور مقادات کے تعاقب کرنے کے لئے آزاد ہوں گے کیسی بھی انہوئے واقعات کے مالی اثرات کے بارے میں پریشان ہوئے بغیر۔ ہمارا پلان آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد کرنے اور اہمیی زندگی گزارنے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے جیسی آپ ہمیشہ چاہتے تھے۔

کلیدی خصوصیات

مکمل بچتیج

جیسے جیسے ہم زندگی کے ہر دور سے گزرتے ہیں، ہماری مالی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ، زندگی اور بچتوں سے ہماری ظاہری نسبت بدل جاتی ہے۔ آپ کی بدلتی ہوئی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے، عسکری لائف نے خوشحال کل پلان تشکیل دیا ہے جو نہ صرف ان دیکھے حالات سے طویل المدت تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کی زندگی میں خوش حالی بھی لاتا ہے۔ خواہ آپ اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہوں، حال ہی میں ایک خاندان کی بنیاد ڈالی ہے، اپنے بچے کی تعلیم یا شادی کے لئے فنڈز کی ضرورت ہے یا آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے لئے کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، خوشحال کل پلان کے تحت تمام تر امکانات کا یقین دلا یا جاتا ہے۔

اپنے بچے کا مستقبل مضبوط کیجئے

جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خواب بھی جنم لیتا ہے۔ ہم والدین کی حیثیت سے اس خواب کو ایک شکل دینا چاہیں گے اور اسکو بہترین ممکنہ طریقے سے حقیقت کا روپ دینا چاہیں گے۔ چاہے وہ اعلیٰ معیار کی تعلیم کی فراہمی کا سوال ہو یا ان کے شادی کے لئے بہترین انتظامات کرنا، ہم اپنی اولاد کے لئے ہمیشہ بہتر ہیں کی خواہش رکھتے ہیں۔ خوشحال کل پلان آپ کو ان تمام خوابوں کے بہ آسانی حصول میں آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ یہ پلان مختلف منفرد فوائد اور اضافی تحفظ کے اختیارات کے ذریعے جو آپ کی اولاد کی مستقبل کی مالی ضروریات کے مطابق وضع کئے جاسکتے ہیں، مکمل وقتی اطمینان کے ساتھ، ان کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لئے بہترین موثر طریقہ جات میں سے ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔

سالیانہ فائدہ

اس اختیار کے ذریعے، آپ کو پالیسی کی اختتامی مالیت ان سالوں تک جن کا آپ نے انتخاب کیا ہو، ماہانہ بنیاد پر حاصل کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اختتامی مالیت سرمایہ کاری کے ذریعے آپ کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں آپ کی منتخب کی گئی مدت کے آخری مہینے تک ماہانہ سالیانہ فائدہ وصول کرنے کے لئے بڑھتی رہے گی۔

ضرورت کے مطابق پلان کو شکل دینا

خوشحال کل پلان کے ذریعے، آپ اپنے لئے خود مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے اپنے اہداف اور اہل خانہ کے منفرد معیار زندگی کے مطابق اپنے پلان کو شکل دینے کی چلک فراہم کرتا ہے۔ اس پلان میں کئی چلکدار اختیارات منبر ہیں، جیسے کہ اپنی سرمایہ کاری اور تحفظ میں ردّ و بدل۔ اس چلک کے علاوہ، آپ ہمارے تصدیق شدہ مالی مشیر کی مدد سے دیگر کئی اختیاری اضافہ جات کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی پالیسی کو مزید فائدہ پیش کر سکتے ہیں۔

سرمایہ کاری کے لئے اضافی اختیار

بیچنے آپ کو موجودہ پلان میں اضافی چلک فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی میں کسی بھی موقع پر اضافی فنڈز دستیاب ہوں تو آپ ان کو پالیسی کی مدت کے دوران خوشحال کل پلان کے تحت سرمایہ کاری کے طور پر پلان میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پلان کی نقدیات میں مزید اضافہ کریں گے۔ بہت سے افراد پالیسی میں ان فنڈز کے ذریعے اضافی سرمایہ کاری کر کے اپنے سالانہ پرمیئم کی ادائیگی کا اختیار استعمال کرتے ہیں۔

کو ملٹل (بیمہ حیات کا تحفظ)

گھر کے کفل کا اچانک دینا سے پردہ کر جانا کئی زندگیوں کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس صورت میں، آپ کے اہل خانہ کے لئے مالی تحفظ از حد ترجیح کا حامل ہوتا ہے۔ خوشحال کل پلان کے ذریعے، آپ اپنے اہل خانہ کے لئے مطلوبہ مالی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک بیکش نمایاں رقم مقرر کر سکتے ہیں جو بھی آپ بچتے ہیں کہ وہ آپ کے اہل خاندنی مستقبل کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے کافی ہوں گی جو پرمیئم کی رقم کا دو سو گنا تک طے کیا جاسکتا ہے۔

رقم تک پہنچی رسائی

آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو نقد رقم کی فوری ضرورت پڑ جاتی ہے؟ یا تو آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں یا اپنی قیمتی اشیاء کو فروخت کرتے ہیں۔ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے بچانے کے لئے اور آپ کی نقد رقم کی فوری ضرورت کا اطمینان دلانے کے لئے، خوشحال کل پلان ایک قابل قدر قرضہ سہولت اور نقد رقم تک آسان رسائی (آپ کے اکاؤنٹ کی مالیت کے پچاس فیصد تک) پیش کرتا ہے۔

افراط زر سے تحفظ

یہ ایک بر قسمت حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو روپیہ ہوتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی قدر کچھ کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ بڑھتا ہوا افراط زر ہماری بچتوں کا ہستہ آہستہ چاٹ جاتا ہے، ہمیں ایک ایسے پلان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری بچتوں کو مر بوط رکھے۔ خوشحال کل پلان افراط زر کا مقابلہ کرنے سے منسوب ایک منفرد بیچہ پیش کرتا ہے جس میں ہر سال پرمیئم میں صرف پانچ فیصد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

غور و فکر کا دورانیہ

خوشحال کل پلان آپ کو اور آپ کے پیاروں کو مطلوبہ مالی تحفظ اور خوشحالی فراہم کرنے کیلئے آپ کے ہدف کے لئے ایک عہد ہے۔ البتہ، اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اس پروڈکٹ کی پیمائش سے مطمئن نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عسکری لائف غور و فکر کا ایک دورانیہ پیش کرتا ہے جس میں آپ بیمہ دار کی کنیت کی دستاویزات وصولی کے 14 دن کے اندر منسوخ کر سکتے ہیں اور 100 فیصد رقم کی واپسی حاصل کر سکتے ہیں۔

پالیسی کی شرائط اور اہلیت

اندراج پر کم از کم عمر	اندراج پر زیادہ سے زیادہ عمر	پالیسی کی کم از کم مدت
(قریبی سالگرہ پر) 18 سال	(قریبی سالگرہ پر) 60 سال	5 سال
ادائیگی کی کم از کم مدت	ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ مدت	پالیسی کی زیادہ سے زیادہ مدت
5 سال	پالیسی کی مدت کے مساوی	70 سال کی عمر تک

بنیادی پرمیئم کی تخصیص

جیسے جیسے آپ اپنی پالیسی کو مکمل مدت تک جاری رکھتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کی مالیت، آپ کے ادا کئے گئے پرمیئم کی ایک تناسب رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی۔ آپ کے اکاؤنٹ کی مالیت کو تخفیف کئے جانے کا تناسب درج ذیل ہوگا:

پالیسی سال	بنیادی پرمیئم کا فیصد	سر بیڑ اخراجات مالیت کے فیصد کے اعتبار سے
1	60 فیصد	100 فیصد
2	90 فیصد	75 فیصد
3 سال اور اس سے زائد	100 فیصد	کوئی نہیں

ایڈوانس بونس

ہمارے **خصوصی ایڈوانس بونس** کے ساتھ مالی خوشحالی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں۔ پہلا سال مکمل ہونے سے پہلے ہمارا ایڈوانس بونس حاصل کریں جو کہ پانچویں سال میں آپ کو آپ کے استحکام کے ثبوت کے طور پر بخش کیا جائے گا۔

پانچ سال سے زائد پر عزم رہیں اور آنے والے سالوں میں مزید گمش لاٹھی بونس حاصل کریں۔

پالیسی سال	اکاؤنٹ مالیت کو تخفیف کئے جانے والی بنیادی ابتدائی پرمیئم کا فیصد
1	20 فیصد
7	30 فیصد
10	100 فیصد
15	150 فیصد
20	200 فیصد

اخراجات

پالیسی فیس

پالیسی کی ماہانہ فیس صرف 200 روپے ہے، جس میں ہر سال 10 فیصد کے اعتبار سے اضافہ ہوگا۔

سرمایہ کاری کے انتظامی اخراجات

اکاؤنٹ مالیت کے 1.75 فیصد سالانہ منہاء کئے جائیں گے۔

بیمہ کی لاگت

متنیل شدہ عمر کے حوالے سے اور شرح اموات کی تبدیلی کی بنیاد پر۔

پرمیئم کا خرچ

ہر پرمیئم پر پانچ فیصد خرچ منہاء کیا جائے گا۔

اختیاری فوائد

ایشیڈرز اطلاع کر دے گا کہ وہ جتنی مدت تک جاری رکھتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کی مالیت، آپ کے ادا کئے گئے پرمیئم کی ایک تناسب رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی۔ آپ کے اکاؤنٹ کی مالیت کو تخفیف کئے جانے کا تناسب درج ذیل ہوگا:

اسکول فیس کی چھوٹ

ہر والدین کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ اور زندگی میں کامیاب دیکھیں لیکن بعض اوقات زندگی میں دیگر منصوبے سامنے آجاتے ہیں کہ کیا یہ جاننا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کہ کسی بھی انہونی کی صورت میں بھی آپ کی اولاد کی تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ بغیر کسی رخنے کے جاری رہے گا؟ اس منفرد اسکول فیس کی چھوٹ کے فائدے سے، خوشحال کل پلان آپ کی غیر موجودگی میں اسکول فیس کی ادائیگی کے ذریعے آپ کی اولاد کی تعلیم کے سلسلے کو یقینی بنائے گا (دس سال کی مدت تک)۔

بڑی نوعیت کی سرجری کی صورت میں حاصل فائدہ

سرجری کے عمل سے گزرنے کی صورت میں اپنی مالیات کے بارے میں پریشان ہونے کے بارے میں سوچئے۔ ایسی کوئی بھی آفت اہل خانہ کیلئے بڑا دی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے حالات کے لئے مالی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہے۔ خوشحال کل پلان یہ منفرد فائدہ پیش کرتا ہے جو آپ کو کسی دائمی بیماری کی تشخیص کی صورت میں تبدیلی مالی مدد فراہم کرتا ہے، تاکہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کی اپنے ہسپتال کے بلوں اور اخراجات کا انتظام کر سکیں۔

یہ فائدہ خاص طور پر ہمارے صارفین کو زندگی کے فوائد پیش کرنے کے لیے ذہن آزن کیا گیا ہے جیسا کہ ہمارے براڈ کے منظر ۱۱جی او ہر گھر" میں دکھایا گیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے چاہنے والے اپنی زندگی گزارتے رہیں اور ہر لمحے سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہیں!

ہسپتال میں داخلے کی صورت میں بیمہ تحفظ

آج کے جدید بہت زیادہ وقتی تناؤ کے معمولات میں ایک صحت مند معیار زندگی گزارنا ایک چیلنج ہے۔ طبی ہنگامی صورت حال بغیر کسی اطلاع کے پیش آسکتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر، علاج معالجے کی لاگت خاندانوں پر ایک بڑا مالی بوجھ پیدا کر سکتی ہے۔ اتنی بڑی ادائیگیاں آپ کے اہل خاندنی مایوس میں عدم توازن کا سبب بن سکتی ہیں۔

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ آپ کو ان دیکھے گئے اخراجات کے لئے اچھی طرح تحفظ حاصل ہے، خوشحال کل پلان آپ کو ایک منفرد فائدہ پیش کرتا ہے جو ہسپتال میں داخلے کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جس میں کسی حادثے کے باعث ہسپتال میں ایک دن سے زیادہ قیام کی صورت میں کوریج ملتی ہے۔



سگین بیماری کی صورت میں حاصل فائدہ

ہر فرد غیر امکانی صورت حالوں اور طبی مدد کے لئے طبی تحفظ کی تلاش کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر آج کل بہت ضروری ہے جبکہ طبی نگہداشت کافی مہنگی اور غیر منصوبہ شدہ ہو گئی ہے۔ اس طرح کے منفی حالات پر قابو پانے کے لئے خوشحال کل پلان ان بیماری کی اضافی فائدہ پیش کرتا ہے جو زندگی کو لاحق جان لیوا بیماریوں کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے (پالیسی کی تفصیلات میں درج بیماریاں)۔ اگر آپ کو درج بالا بیماریوں میں سے کسی کی بھی تشخیص ہوتی ہے تو آپ کو ایک یکمشت رقم پیش کی جاتی ہے۔ یہ یکمشت رقم کل پلان کے فائدے کے علاوہ ہے۔



ماہانہ آمدنی کا فائدہ

اپنی پوری زندگی میں، ہم اپنے پیاروں کو بچہ بچہ اور مالی طور پر سکون، خوشی اور تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اگر میں اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آس پاس نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا میں نے اپنے پیاروں کو مالی طور پر محفوظ کیا ہے؟ کیا میں اپنے موجودہ اہداف کو پورا کرتے ہوئے اپنے خاندان کی مالی حفاظت کے لیے منصوبہ بنا سکتا ہوں؟

عسکری لائف کو ایک ایسے منفرد فائدے کو متعارف کرانے پر فخر ہے جو آپ کو اور آپ کے خاندان کو مالی برقیاتی سے محفوظ رکھے گا حتیٰ کہ کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں بھی جس کے نتیجے میں موت یا معذوری ہو جاتی ہے اور ان کے ماہانہ اخراجات کو آسانی سے سنبھالنے کے لیے انہیں باقاعدہ ماہانہ آمدنی فراہم کی جاتی ہے۔



پریشیہم کی چھوٹ (معذوری کی صورت میں)

ہم سب اپنے اہل خانہ کے حال کی حفاظت کیلئے ان کی فلاح و بہبود کیلئے کام کرتے ہیں اور اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل مالی طور پر محفوظ رہے۔ چاہے وہ آپ کی اولاد کی اعلیٰ تربیت ہو، کسی خاندان کی بنیاد لی جارہی ہو، تفریح کے لئے رخصت ہو یا ایک محفوظ ریٹائرمنٹ، ہم آپ کے پیاروں کو بہترین طور فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی امکانی صورت میں، آپ مستقبل کے لئے تیاری کرتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ آپ کے اہل خانہ وہی معیارات زندگی برقرار رکھیں اور مالی طور پر محفوظ مستقبل کے حامل ہوں۔ لیکن کیا ہوگا اگر غیر یقینی صورت حال، جو غیر متوقع معذوری کا سبب بن جائے، آپ کمائے کے لائق نہ ہوں اور اپنے پریشیہم کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں؟ اس خصوصی اضافے کے ساتھ، ہم آپ کے لئے لائے ہیں، پریشیہم کی چھوٹ کا اضافی فائدہ جو آپ کی بیریہ پالیسی کو فائدہ کے حصول کی اجازت دیتا ہے اس کے باوجود کہ آپ اپنے مستقبل کے پریشیہم کو ادانے کے قابل نہ ہوں۔



پریشیہم کی چھوٹ (وفات کی صورت میں)

اگر آپ اپنے اہل خانہ کے لئے زیادہ سے زیادہ تحفظ کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی پالیسی اس وقت بھی فعال رہے جب آپ ان کی کفالت کے لئے موجود نہ ہوں۔ یہ فائدہ آپ کیلئے ہے۔ اس اضافی فائدے سے، آپ کے اہل خانہ، اس تحفظ کے تحت، جو آپ نے ابتدائی طور پر اچانک مالی بوجھ کے تحفظ کیلئے مقرر کیا ہو، نہ صرف ضمانت شدہ یکمشت رقم حاصل کریں گے (زیادہ) بلکہ ان کو پالیسی کی مدت کے اختتام پر پالیسی کا اختتامی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔



حادثاتی وفات اور معذوری کی اضافی فائدہ

زندگی کے سفر میں، آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ کو بہتر مستقبل فراہم کرنے کیلئے، ایک اضافی میل چلتے ہیں۔ البتہ، زندگی کا یہ غیر یقینی صورت حالوں سے بڑا ہے، آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے۔ آج کے منظر ناموں میں، حادثات و واقعات کے تعداد میں اضافے کے ساتھ، آپ کو اپنے اہل خانہ کے مستقبل کو ڈھال فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایک ذمہ دار فرد کی



لیول ٹرم اضافی فائدہ (اضافی فائدے کا اختیار)

حیثیت سے، آپ ایسے واقعات کیلئے اپنے اہل خانہ کے مستقبل کی حفاظت کرنا چاہیں گے۔ عسکری لائف حادثاتی وفات اور معذوری اضافی فائدہ، کسی بھی حادثے کی صورت میں جو موت یا معذوری کا سبب بن جائے، آپ کے اہل خانہ کو اضافی مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔

ہم سب لوگوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہمارے اہل خانہ کو تحفظ حاصل ہو اور وہ مالی طور پر محفوظ ہو، آج بھی اور مستقبل میں بھی۔ اور ہم تمام حالات کے لئے مالی طور پر تیاری کر کے اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اخراجات بڑھ رہے ہیں اور مناسب طور پر تحفظ کے درجے کو بڑھانا چاہیں (زیریں)؟ مزید برآں، زندگی کے بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ، جیسے کہ ضروریات بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، شادی کے بعد، والدین کا دوجہ حاصل کرنا یا آپ کے والدین کے ریٹائرمنٹ کے بعد۔

یہ اضافی فائدہ خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ آپ کے اہل خانہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا خیال رکھا جاسکے۔ اگر آپ اس اضافی فائدے کے ساتھ بیریہ جیاتی پالیسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کے خاندان کے نامزد کردہ فرد کو نہ صرف زیریں یا نقد مالیت حاصل ہوگی بلکہ اس نئے بیریہ فائدے سے اپنی پالیسی کے ساتھ ایک معمولی فیس ادا کر کے، ایک اضافی رقم کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔



بڑی نوعیت کی سرجری کی صورت میں حاصل فائدہ

سرجری کے عمل سے گزرنے کی صورت میں اپنی مالیات کے بارے میں پریشان ہونے کے بارے میں سوچئے۔ ایسی کوئی بھی آفت اہل خانہ کیلئے بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس منفرد فائدے کے ذریعے، اگر آپ کسی سرجری سے پالیسی کی مدت کے دوران گزرتے ہیں (تفصیلات پالیسی میں درج ہیں) تو عسکری لائف پانچ لاکھ روپے کے سرجری کے اخراجات برداشت کرے گی۔ چنانچہ آپ کے اہل خانہ پر کوئی اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ فائدہ علاج کے لئے درکار مناسب رقم سے آپ کے لئے ایک تحفظ کا کردار ادا کرتا ہے۔

دستبرداری

- خوشحال کل پلان ایک یونیورسل لائف پلان ہے جو سرمایہ کاری کے نقصان کے اندیشے سے مشروط ہے اور پلان کی نقد مالیت براہ راست سرمایہ فیڈ کی کارکردگی کے مطابق بدلے گی۔
- بینک عسکری لائف کی جانب سے ایک کارپوریٹ سیلز ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور وہ کسی بھی طور صارف، اس کے فائدہ اٹھانے والا (والے) یا کسی تیسرے فریق کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔
- عسکری لائف بیریہ دار کی خدمات، کلیم کے قیام اور کلیم کی کارروائی کے سلسلے میں واحد ذمہ دار ہوگا۔
- خوشحال کل پلان کی تمام درخواستیں، بیریہ کاری کی گائیڈ لائنز کے مطابق عمل میں آتی ہیں اور منظور ہوتی ہے۔ بینک کسی بھی طور ان درخواستوں پر عمل درآمد اور منظوری کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔
- فوائد کی ایک شعبی توضیح ہمارا سیکرٹ کا نمائندہ آپ کو پیش کرے گا۔ براہ مہربانی مختلف شرائط و ضوابط کو تفصیلی طور پر سمجھنے کے لئے اس میں شذرات ضرور دیکھئے۔
- یہ کتابچہ اس پالیسی کے تحت دستیاب فوائد کا ایک تعارف پیش کرتا ہے۔ معاہدہ کس طور پر کام کرتا ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ”شرائط و ضوابط“ میں دی گئی ہے جو صارف کے خدمات حاصل کرنے کے بعد فراہم کی جائیں گی۔



askarilife
Jee Lo Har Ghari

عسکری بیئر لائف خوشحال کل پلان

ارادہ کرو بہتر مستقبل کا!

Askari Life Assurance Co. Ltd.

Emerald Tower, Office No. 1104, 11th Floor, Plot G-19, Block 5,
KDA Improvement Scheme No. 5, Clifton, Karachi.
Tel: 021 36269941-44 | Fax: 021 3514 7540
UAN: 021-111-225-275 | Email: info@askarilife.com

www.askarilife.com



021-111-225-275



www.askarilife.com